

(1052) RIGHTS, CONSTITUTIONAL

(آئینی حقوق) ریاست یا وفا قی آئین کے عطا کردہ شخصی حقوق۔

(1053) RIOT

(بلوہ۔ ہنگامہ آرائی) تین یا تین سے زائد افراد کا مجمع میں جبر، بختی اور ہنگامہ آرائی سے فساد پیدا کرنا۔

(1054) ROBBERY

(ڈاکہ زنی۔ سرتہ بالجبر) جبر، طاقت، تشدید اور خوف وہ راس سے کسی دوسرے کی رقم، ملکیت، ذاتی پراپرٹی یا دیگر قیمتی اشیاء پر قبضہ کر لینا۔

(1055) ROUT

(دو سے زیادہ افراد کا غیر قانونی اجتماع) دو یا دو سے زیادہ افراد کا مجمع ہو کر ایسے عمل کی تجویز یا کوشش کرنا جس کے ارتکاب کا نتیجہ شخص اُس اور فساد ہو۔

(1056) RULE

(قاعده۔ ضابط) ایک مستحکم معیار، طریق یا قاعدہ۔

(1057) RULE OF COURT

(عدالتی حکم نامہ) ایک (معقول) اعلیٰ اختیارات رکھنے والی عدالت کا جاری کردہ حکم۔ عدالتی حکم نامہ دو قسم کے ہوتے ہیں عمومی یا خصوصی۔ اول الذکر وہ قواعد جن کے تحت عدالت کا نظام چلتا ہے، مونہ الذکر خاص مقدمات کیلئے ہوتے ہیں۔

(1058) RULES OF EVIDENCE

(قواعد شہادت) وہ معیار جس کے ذریعے کسی اطلاع (یا شہادت) کو ایک دیوانی یا فوجداری مقدمے میں قابل غور و ادخال سمجھا جائے۔

(1059) SANCTION

(جوائز۔ مالی سزا) کسی شخص کو قانون کی اطاعت پر مجبور کرنے کی غرض سے عائد کردہ مالی سزا۔ مثلاً جو کسی شخص کو عدالتی حکم نامے پر اس کو مالی سزادے سکتا ہے۔

(1060) SATISFACTION OF JUDGMENT

(ادائیگی از روئے قانونی فیصلہ) ہار جانے والے فریق کی جانب سے (عدالتی فیصلے یا حکم کے مطابق) ادائیگی رقم۔

(1061) SEALING

(سربہ مہر کرنا۔ بند کرنا) (مقدمے کی کارروائی سماعت کے) عدالتی ریکارڈ کو دائرہ بندش میں رکھنا تاکہ فریقین مقدمہ کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا معائنہ نہ کر سکے۔

(1062) SEARCH AND SEIZURE

(تلائش و ضبط) کسی شخص یا اس کے گھر کی تلاشی کے بعد مقدمے سے تعلق رکھنے والے شواہد کو قبضے میں لینا۔ ایسی تلاشی عدالتی حکم کے اجر کے بعد عمل میں آتی ہے۔

(1063) SEARCH WARRANT

(وارنٹ تلاشی) وہ حکم نامہ جس کے تحت کسی خاص شخص یا اشیاء کی برآمد کیلئے پولیس کو تلاشی کا حکم دیا جائے۔ ایسا حکم نامہ ایک اغلب امکان کی بنیاد پر جاری کیا جاتا ہے۔

(1064) SECURED DEBT

(قرضہ محفوظ) کارروائی دیوالیہ میں محفوظ قرضہ اسے گردانا جاتا ہے جبکہ مقرض پارٹی قرض خواہ کو اس کی جائیداد یا اٹاٹ پر قبضہ کر لینے کا حق دے دے۔

(1065) SELECTION AND IMPLEMENTATION HEARING

(ساعت برائے انتخاب و نفاذ) مقدمے کی وہ کارروائی ساعت جو والدین اور بچوں کے درمیان (مکمل فلاح و بہبود کے کوڈیکشن نمبر 336.26) کے مطابق) کوشش اتحادِ نو کی ناکامی کے بعد عمل میں آئے۔ چند امور کے بارے میں فیصلہ کرنا، ایسی ساعت کا نشانہ ہوتا ہے۔ جیسے حقوق والدین بالکل منقطع کر کے بچوں کو گود لینے کی آزادی کا دینا۔ کسی اور کفالت و غہدہ اشت کی تلاش یا ان کیلئے ایک نیا مستقل رہائشی بندوبست کا کرنا۔

(1066) SELF-DEFENSE

(حفاظتِ ذاتی) کسی فعل کے کرنے یا کسی معاطلے میں قدم اٹھانے کا جواز، جس کا مقصد کسی کی جان یا جاہیدا کو دھمکی یا خطرے سے بچانا ہو۔ اس پناپ ایسے اقدام کو قانونی طور پر پروائیجنے کا دعویٰ۔

(1067) SELF-INCRIMINATION

(اپنے آپ کو جرم میں پھنسانا) ایسا عمل یا بیان جس کی وجہ سے کوئی شخص اپنے آپ کو جرم میں پھنسائے۔

(1068) SELF-PROVING WILL

سرائے دروغِ حلقوی کے تحت دو اشخاص کا دستخط کردہ وصیت نامہ جن کا اس وصیت نامہ میں اپنا کوئی حصہ نہ ہو، ایسے وصیت نامے کیلئے گواہوں کا حلقویہ بیان لینا ضروری نہیں۔

(1069) SENTENCE

(سزا۔ حکم سزا) ساعت کارروائی مقدمہ کے بعد، ایک نج کی باضابطہ طور پر مجرم کو سنائی گئی سزا۔

(1070) SENTENCE REPORT

(رپورٹ اعلان سزا) وہ دستاویز جس میں مجرم کی گذشتہ روادادِ جرم و سزا درج ہو۔ ایسی دستاویز نج کو موجودہ مقدمے کا فیصلہ کرنے اور سزا تعین کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔

(1071) SENTENCE, CONCURRENT

(سزاۓ بالاتصال) قید کی دو یادو سے زیادہ سزا میں جو ساتھ ساتھ شروع ہوں۔

(1072) SENTENCE, CONSECUTIVE

(سزاۓ سلسلہ وار) قید کی دو یادو سے زیادہ سزا میں جو سلسلہ وار کاٹی جائیں۔

(1073) SENTENCE, SUSPENDED

(معطل کردہ سزا) ملتوی کردہ سزا جس میں مدعایلیہ کیلئے سزا کا شناخت وری نہیں۔ مساویہ کہ دورانِ التواہ کسی اور جرم یا قانونِ شکنی کا مرتكب ہو جائے۔

(1074) SENTENCING

(سزا کا تعین) عدالت میں پیشی (حاضری) جس میں عدالت (مجرم کی) سزا کا تعین کرے۔

(1075) SEPARATE MAINTENANCE

(علیحدہ نان و نفقة) وہ الاوُسْ جو (زوجین میں سے ایک فریق) جو شادی شدہ ہوتے ہوئے، لیکن ایک دوسرے سے علیحدگی کے دوران، گزارے کیلئے ادا کرے۔

(1076) SEPARATION

(علیحدگی۔ افتراق) باہمی مفاہمت یا عدالتی حکم نامہ کے تحت ایسا بندوبست جس میں شوہرو بیوی (شادی شدہ ہو کر بھی) ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں۔

(1077) SEQUESTRATION OF WITNESSES

(گواہوں کی علیحدگی۔ عزلت گواہان) (مدعی اور مدعی علیہ کے علاوہ) تمام گواہوں کو اس تنبیہ کے ساتھ (کہ وہ مقدمے کی کارروائی اور گواہوں کی گواہی کو زیر بحث نہ لائیں) کورٹ روم سے باہر رکھنا۔ اس پالیسی سے ایک گواہ دوسرے کی گواہی کے زیر اثر نہیں آتا، اسے گواہان کی علیحدگی بھی کہتے ہیں۔

(1078) SERVE A SENTENCE

(تمیل سزا۔ سزا کاٹنا) (عدالت کی طرف سے) ایک معینہ مدت کو ایک معینہ مقام (جیل خانے) میں قید و سزا کی شکل میں برقرارنا۔

(1079) SERVICE

(تمیل حکم نامہ) ایک بانٹھنے کا (جس کا مقدمے سے کوئی تعلق نہ ہو) کسی دوسرے شخص تک عدالتی حکم نامہ کا شخصی طور پر یا ذریعہ ذکر پہنچانے کا عمل۔

(1080) SERVICE OF PROCESS

(عدالتی حکم نامے کو مخالف تک پہنچانے کا عمل) یہ کام صرف وہ بانٹھنے (انمارہ سال سے بڑا) شخص کر سکتا ہے جس کا مقدمے سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ حل斐ہ طور پر سرکاری کاغذات کووصول کنندہ تک پہنچانے کے طریقہ اور تاریخ کی تصدیق کرے۔

(1081) SETTLEMENT

(تصفیہ۔ بندوبست۔ بحالی) فریقین کا ایک شرط نامے پر تفہیق ہو جانا جس کی وجہ سے عدالت کے سامنے نجی یا جیوری فیصلہ دے اور مقدمہ اختتام پذیر ہو۔

(1082) SETTLOR

(مرتب کنندہ وقف) وہ شخص جو ایک وقف کو ترتیب دے۔

(1083) SEVERANCE DAMAGES

(ہرجانہ انقطاع) وہ رقم جو کوئی شخص عدالت کے ذریعے انقطاع (جیسے انقطاع ملازمت) کے ہرجانے یا تلفی کے طور پر کسی شخص یا فریق سے وصول کرے۔

(1084) SEXUAL ABUSE/ASSAULT

(جنی بدقیل یا حملہ) ناجائز اور بال مجرمی تعلق۔

(1085) SEXUAL BATTERY

(جنی زد کوب) کسی کے جنسی اعضاء میں اس کی مرضی کے خلاف دخول۔

(1086) SEXUAL HARASSMENT

(جنی طور پر دیق کرنا) جنسی بد کاری، ناجائز جنسی رو یہ یا فعل (تو اترو بکرار کے ساتھ) جو ایک خاص شخص کے خلاف کیا جائے اور یہ فعل شخص موصوف کی پریشانی اور دماغی تکلیف کا باعث ہو۔

(1087) SEXUAL MOLESTATION

(ناجائز جنسی دست درازی) ناجائز ناروا جنسی دست درازی جو اکثر ایک بچے پر والدین، نگران، رشتہ دار یا واقف کار کی طرف سے ہوتی ہے۔

(1088) SEXUALLY VIOLENT PREDATOR

(سابقہ طور پر جنسی دست درازی میں ملوث) وہ شخص جو دو یادو سے زیادہ لوگوں کے خلاف قبیح جنسی رو یہ کے جرم میں سزا یافتہ ہو۔ ایسے شخص کو دماغی خلل کا شکار جان کر لوگوں کی صحت و سلامتی کیلئے خطرہ تصور کیا جاتا ہے۔

(1089) SHERIFF

کاؤنٹی کے ایک منتخب افسر جس کے فرائض میں اپنے علاقہ اختیارات میں امن و امداد فراہم کرنے کے علاوہ دیوانی اور فوجداری عدالت کی اعانت کرنا بھی شامل ہے۔

(1090) SHOPLIFTING

(کاروباری جگہ سے اشیاء کا چرانا) کسی استور یا تجارت کی جگہ سے عمداً اشیاء و مال کا اس نیت سے چھپانا یا چرانا تاکہ قیمت ادا کئے بغیر ان اشیاء کو ہڑپ کر لیا جائے۔

(1091) SHOW CAUSE

(اظہار و جوہ۔ وجہ ظاہر کرنا) وہ عدالتی حکم نامہ جس کے ذریعے کسی شخص کو عدالت کے سامنے ان وجوہات و شواہد کو پیش کرنے کا حکم ہو، جن کی پناپ مختلف فریق کی گذارشات کو مسترد کر دینا چاہئے۔

(1092) SIDEBAR

(علیحدہ بار) جیوری اور عوام کی سماعت سے دور، عدالت میں نجح اور وکلاء کے درمیان بات چیت۔

(1093) SLANDER

(بدنام کرنا۔ جھوٹا الزام لگانا) زبانی بیانات و بات چیت کے ذریعے کسی شخص پر بہتان لگانا، یا اس نیت سے غلط الزامات مشتمل کرنا، تاکہ اس شخص کی شہرت اور نیک نامی کو نقصان پہنچے۔

(1094) SMALL CLAIMS COURT

(عدالت مطالبات خفیہ) وہ عدالت جو پانچ ہزار روپیہ کے مطالبات کو طے کرے۔ ایسی عدالت میں اکثر لوگ اپنے کیس کی نمائندگی (وکیل کے بغیر) خود کرتے ہیں۔

(1095) SODOMY

(لواطت۔ اغلام بازی) انسانوں یا حیوانوں اور انسانوں کے درمیان دہانی یا بذریعہ مقد傂 جنسی تعلق۔

(1096) SOLICITATION

(استدعا۔ گذارش) کسی دوسرے سے ارتکاب جرم کرنا۔

(1097) SOVEREIGN IMMUNITY

(استثنائے اعلیٰ و مقتدر) وہ ضابط جس کے تحت ریاستی اور وفاقی سرکار پر ان کی اجازت کے بغیر دعوئی نہیں کیا جاسکتا۔

(1098) SPECIAL CIRCUMSTANCE

(تحفیظی حالات) ایسا دعوئی جس کے تحت ایک مقدمے یا الزام (کی نوعیت) کے تحت سزاۓ موت لازمی ہے۔

(1099) SPECIAL VERDICTS

(فیصلہ تحفیظی) وہ تحریری رائے یا تحریر جو جیوری مقدمے کے ہر پہلو پر تحقیق و تفییض کے بعد پیش کرے اور مقدمے کا فیصلہ عدالت یا نجح پر چھوڑ دے۔

(1100) SPECIFIC INTENT CRIME-

(محض نیت سے ارتکاب جرم) ایسا جرم جس کے ارتکاب کیلئے ایک خاص دماغی حالت درکار ہو۔

(1101) SPECIFIC PERFORMANCE

(تمیل مختص) وہ مختص تعمیل جو کسی قانون یا حکم عدولی کی پاداش کے طور پر عمل میں آئے۔ یہ ایسی صورتی حال میں دی جاتی ہے، جب کہ

ہرجانہ مناسب تلافی نہ سمجھا جائے۔

(1102) SPEEDY TRIAL

(فی الفور ٹرائل) امریکی آئین کی چھٹی ترمیم کے تحت (شہری کو) دیا گیا حق، جس کے تحت ملزم ایک فوری ٹرائل کی درخواست کر سکتا ہے۔

(1103) SPENDTHRIFT TRUST

(وقفِ مصرف) ایک ایسا ٹrust جس کی رو سے مشتفع (فائدہ اٹھانے والا) کو اپنا حصہ وقف، تقسیم کرنے یا فروخت کرنے کا اختیار نہ ہو۔ یعنی قرض خواہ ٹrust سے رقم حاصل نہیں کر سکتے۔

(1104) SPOUSAL SUPPORT

(نفقہ زوجین) عدالت کی طرف سے حکم کردہ وظیفہ معاونت برائے موجودہ یا سابقہ (بیوی و شوہر)۔ اسے گذارہ یا وظیفہ الادنس بھی کہتے ہیں۔

(1105) SPOUSE/COHABITANT BEATING

(دیکھئے) **DOMESTIC VIOLENCE**

(1106) STALKING

(خفیہ طور پر پیچھا کرنا) کسی کا خفیہ طور پر چوری پیچھا کرنا، ذرا نے، دھمکانے، پریشان کرنے یا کوئی جرم کرنے (جیسے ارادہ قتل یا مارپیش) کی غرض سے کسی کا چکے چکے تعاقب۔

(1107) STANDARD OF PROOF

(معیارِ ثبوت) اکثر مقدمات کی کارروائی ساعت میں ثبوتوں میں تین معیار ملتے ہیں۔ فوجداری مقدمات میں ”معقول شک و شبہ سے بالاتر“ ثبوت کو اثباتِ جرم کیلئے اہم ترین ثبوت گناہاتا ہے۔ دیوانی، دست گمراہ و غفلت والے مقدمات کی کارروائی میں شواہد کی بھرمار (توازنِ زیاد) کو حیرتِ ترین ثبوت سمجھتے ہیں۔ کچھ دیوانی، اور نابالغ کی کارروائی میں ”والدین کے حقوق کا مستقل انقطاع“ جیسے سائل کیلئے صاف اور موثق شواہد کو شاناوی معیار قرار دیا جاتا ہے۔

(1108) STANDING

(حیثیت۔ مدت۔ مستقل) مقدمہ دائر کرنے کا قانونی حق، جو اسی شخص کو حاصل ہے، جس کا مفاد (دیکھیں یا کچھ اور) اس مقدمے میں داؤ پر ہو۔

(1109) STARE DECISIS

(فیصلے پر قائم رہنا) وہ کلیہ (قاعدہ) جس کی رو سے عدالت ان اصولوں کی پیروی کرے گی جو سابقہ مقدمات میں بنائے گئے ہیں۔ PRECEDENT کی طرح۔

(1110) STATEMENT, CLOSING

(بیانِ اختتامیہ) عدالت یا جیوری کے سامنے وکلاء کا بیانِ اختتامیہ جس میں اختصار کے ساتھ یہ بتایا گیا ہو کہ وہ اپنا موقف بیان کرنے اور شواہد کے پیش کرنے میں کامیاب اور فرقی مخالف ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ (اسے **CLOSING ARGUMENT** بھی کہتے ہیں)۔

(1111) STATEMENT, OPENING

(بیانِ آغاز مقدمہ) جیوری کے سامنے اصل ثبوتوں کو پیش کرنے سے مقدمے اور متوقع شواہد کی نوعیت کے بارے میں وکلاء و فریقین کا ابتدائی بیان۔ (اسے **OPENING ARGUMENT** بھی کہتے ہیں)۔

(1112) STATEMENT OF FACT

(بیانِ حقائق) مقدمے کے حقائق کے بارے میں تحریری یا تقریری بیان۔

(1113) STATUS OFFENDERS

(حالت وحیثیت کی خلاف ورزی کرنے والے) نو اجران بچے جن پر اپنے قانونی سرپرست کی حکم عدالتی، مستقل نافرمانی، اسکول سے بھاگنے یا ایسے افعال کے ارتکاب کا الزام ہو جو اگر کسی بالغ سے سرزد ہوں، تو جرم نہ گئے جائیں۔ یہ لوگ قصور و انہیں بلکہ ایسے بالغ، نابالغ اور کم سن بچوں ہیں، جن کو (اپنی اپنی ریاستوں کے قانون کے مطابق) سرپرستی کی ضرورت ہے۔ حالت وحیثیت کی خلاف ورزی کرنے والے ان بچوں کو نابالغ عدالت کی زیر نگرانی رکھا جاتا ہے۔

(1114) STATUTE

(قانون موضعی) کا انگریزی یاریاً سی قانون ساز ادارے کا منظور شدہ قانون۔

(1115) STATUTE OF LIMITATIONS

وہ قانون جو کسی واقعہ یا حادثہ کے پیش آنے کے بعد، مقدمہ دائر کرنے کیلئے (کتنی مدت درکار ہے) کو واضح کرے۔

(1116) STATUTORY

(آئینی - قانونی) از روئے قانون، جو قانون کی رو سے وجود میں آیا، جسے قانون نے واضح کر کے ضروری قرار دیا۔

(1117) STATUTORY ACTIONS

(فعل آئین) وہ فعل جو از روئے قانون، شکل، عمل اور وجود میں آئے ہوں اور تقاضہ قانون ہوں۔

(1118) STATUTORY CONSTRUCTION

(ساخت آئین) وہ طریقہ کارجس کے ذریعے ایک عدالت قانون سازی کی حدود اور نوعیت کی تشریح اور وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

(1119) STATUTORY LAW

(آئینی قانون) وہ قانون جو حکومت کے قانون ساز ادارے نے تشکیل دیا ہو۔ (یہ کیس اور کامن لاء سے مختلف ہے۔)

(1120) STATUTORY RAPE

(آئینی خلاف ورزی کا زنا بالجبر) کسی ایسے شخص کے ساتھ ناجائز بالجبر ہم بستری کرنا جو آئینی قواعد کی رو سے ابھی نابالغ ہو۔ خواہ اس عمل میں دونوں کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔

(1121) STAY

(التواء - موقوفی) عدالتی حکم کے ذریعے کسی کارروائی کو روکنا (رکوانا)۔

(1122) STAY OF EXECUTION

(التواءی تعمیل ڈگری) ایسا عدالتی حکم جو کسی فعل (جیسے قید کی سزا) کے نفاذ کو روک دے۔ ایسے القا کی منظوری مدعاعلیہ کی درخواست یا آئینی قانون (جسے کیلیفورنیا چینل کوڈ سیکشن 654) کے تحت مل سکتی ہے۔

(1123) STIPULATE

(اقرار کرنا - معاهدہ کرنا) کسی شرط سے متعلق ہونا۔

(1124) STRICT LIABILITY

(شدید موافقہ) موافقہ اشیا والے مقدمات کے سلسلے میں عدالت کا یہ موقف کہ فروخت کرنے والا، ہر ان نفع والی ضرر رسان اشیا کا ذمہ دار ہے، جن کی وجہ سے استعمال کنندہ کی محافظت خطرے میں یڑے۔

(1125) STRICKEN EVIDENCE

(حذف شدہ شہادت) وہ شہادت جو ریکارڈ سے حذف کر دی جائے۔

(1126) STRIKE

(۱) حذف کرنا، منادیانا۔ (۲) سزا نانے سے پہلے کسی ازام کو خارج کرنا۔ (۳) سزا یابی سے قبل ایک عکسیں جرم کا رہنمای جام کا سابقہ ازام گناجا یا گیا جیسے دوسرا اور تیسرا وار۔

(1127) SUA SPONTE

(اپنی مرضی سے) فریقین کی گزارش کے بغیر صحیح کا (مقدمے کے سلسلے میں) کوئی اقدام کرنا۔ لاطینی میں ہے ”اپنی مرضی سے“ ماخوذ۔

(1128) SUB CURIA

(قانون کے تحت) مقدمہ کو زیر غور رکھنا۔ بعض اوقات کچھ دستاویزات یا شواہد (جیسے قبل از سزا تفتیشی رپورٹ، قانونی یادداشت۔ یا تحریری رائے و تجویز) کو داخل کرنے کے انتظار میں مقدمہ ”زیر غور“ حالت میں رہتا ہے۔ لاطینی ”قانون کے تحت“ سے ماخوذ۔

(1129) SUBMIT

(پیش کرنا۔ گزارش کرنا) کسی دوسرے کی مرضی میں اپنی مرضی زم کرنا۔ دوسرے کے حوالے کرنا۔ ایسے سمن اکثر کسی گواہ کو عدالت میں پیش ہونے کیلئے بھیجے جاتے ہیں۔

(1130) SUBPOENA

(سفینہ۔ سمن۔ حکم نامہ) سرکاری حکم نامہ جس میں کسی خاص دن ایک مقررہ وقت پر عدالت میں پیش ہونے کا حکم ہو۔

(1131) SUBPOENA DUCES TECUM

عدالتی حکم نامہ جس کی رو سے مقدمے کے متعلق دستاویزات کو عدالت میں ایک خاص وقت پر پیش کرنے کا حکم ہو۔

(1132) SUBROGATION

(ایک دائن کی بجائے دوسرے دائن کو قائم کرنا) قانونی کلم (CLAIM) میں ایک دائن کا دوسرے دائن کی بجائے قائم کرنا۔

(1133) SUBSTANTIAL PERFORMANCE

(حقیقی و اہم کارکردگی) جب کسی فریق نے معاملہ کی اہم ترین شرائط کو پورا کر دیا ہو اور محض چند غیر ضروری چیزیں (معاملہ کی تکمیل کیلئے) ادھوری رہ گئی ہوں۔

(1134) SUBSTANTIVE LAW

وہ قانون جو حقوق، ذمہ داریوں اور فرائض سے متعلقہ معاملات کا اہتمام کرے۔ اس کے مقابلے میں PROCEDURAL LAW دیوانی اور فوجداری قوانین کے میکنیکل پہلوؤں کو نافذ کرنے کا بندوبست کرتا ہے۔

(1135) SUCCESSION

کسی ایسے متوفی کی جائیداد کا نائل حاصل کرنا جس کیلئے اس نے کوئی وصیت نہ چھوڑی ہو۔

(1136) SUE

(استغاشہ یا ناش کرنا) اپنے حق کے حصول کیلئے عدالت میں چارہ جوئی کیلئے درخواست کرنا۔

(1137) SUIT

(ناش۔ مقدمہ۔ دعویٰ) ایک شخص کا دوسرے شخص کے خلاف عدالتی کارروائی۔

(1138) SUMMARY JUDGMENT

(سرسری فیصلہ) ٹرائل کے بغیر (کسی مقدمے میں) بحث کا فیصلہ دینا۔ ایسا فیصلہ درج شدہ دستاویزات کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔

(1139) SUMMONS

(سمن۔ طلب نامہ۔ حکم نامہ) (۱) مدعاعلیہ کیلئے عدالت کی جانب سے طلب نامہ جس میں یہ بتایا جائے کہ (مدعاعلیہ) کے خلاف کسی شخص نے اڑام لگا کر مقدمہ دائر کیا ہے۔ اس لئے عدالت میں فلاں دن اور فلاں وقت پر حاضر ہو کر اپنے دفاع میں صفائی پیش کرے۔ (۲) وہ طلب نامہ جو فرضِ جیوری کی ادائیگی کیلئے "جیوری سمن" کی شکل میں بھیجا جائے۔

(1140) SUPERSEDEAS

اپیلانٹ کو رٹ کی طرف سے جاری کردہ وہ رٹ (پروانہ۔ حکم نامہ) جس میں مقدمے کی صورتِ حال کو برقرار رکھنے کی ہدایت ہو، تاوقت کہ فیصلے پر نظر ثانی اور دیگر قانونی کارروائی مکمل نہ ہو جائے۔

(1141) SUPPORT TRUST

(اعانت از رونے وقف) ایسا ٹrust جو مرتضیٰ کو یہ تنبیہ کرے کہ اس ٹrust میں سے اتنی ہی رقم استعمال کرنی چاہئے جو وارث کی دیکھ بھال اور پرورش کیلئے ضروری ہے۔

(1142) SUPPRESS

(Dissolution۔ ظاہرنہ ہونے دینا) کسی کی حرکات و مصروفیات کو وکنایا ختم کرنا۔ (و کیھے EXCLUSIONARY RULE)

(1143) SUPPRESSION HEARING

(منسوخی سماحت) فوجداری مقدمے میں مدعاعلیہ کی تحریک پر عدالت سے درخواست، جس میں مدعی کو ایسے شواہد کے استعمال سے باز رکھنے کی تنبیہ کی درخواست ہے جو اس نے غیر قانونی طور پر مدعاعلیہ کے حقوق کی خلاف ورزی کے بعد حاصل کئے ہیں۔ ایسی سماحت جیوری کی غیر حاضری میں ٹرائل سے پہلے یا بعد عمل میں آتی ہے اور بحث پر لازم ہے کہ وہ اس تحریک پر اپنا فیصلہ دے۔

(1144) SURETY BOND

(ضمانی بانڈ) کسی قومی انسورنس کمپنی کی وہ بیمه پالیسی جو مدعاعلیہ نے حاصل کی ہو۔ اس پالیسی کے تحت انسورنس کمپنی اس بات کی ضامن ہے کہ اگر مدعاعلیہ مقررہ دن اور وقت پر اپنے آپ کو عدالت میں پیش نہیں کرتا تو انسورنس کمپنی کو طے شدہ ضمانات کی رقم عدالت کو تلافی کے طور پر ادا کرنی پڑے گی۔ (اسے FIDALITY BOND بھی کہتے ہیں۔)

(1145) SURVIVORSHIP

(باقی رہنا۔ باقی رہنا۔ بقیہ) مشترکہ کرایہ داری کا دوسرا نام۔

(1146) SUSPEND

(معطل کرنا۔ ملتوی کرنا) عدالتی فیصلے، سزا یا کچھ شرائط کو عارضی طور پر ملتوی کرنا۔

(1147) SUSTAIN

(تائید کرنا۔ صحیح قرار دینا۔ جائز بتانا) برقرار رکھنا۔ تائید کرنا۔ منظور کرنا۔

(1148) SWEAR

(حلفیہ کہنا۔ قسم کھا کر کہنا) قسم کھا کر (حلفیہ) کسی بات کی تصدیق کرنا یا صحیح مانتا۔

(1149) TANGIBLE

(قابلی حس۔ ماڈی) وہ چیز جو مادی طور پر چھوٹی جائے سکے۔ جسے قوتِ لمس محسوس کرے۔

(1150) TANGIBLE PERSONAL PROPERTY MEMORANDUM (TPPM)

(قسم جائیداد ذاتی کی یادداشت) ایک قانونی دستاویز جس کا تذکرہ وصیت ناموں میں ملتا ہے۔ اس سے (وصیت کردہ) ذاتی جائیداد کی تقسیم میں مدد تھی۔ ذاتی املاک جیسے فرنچر، کپیوٹر، زیورات اور آرٹ ورک وغیرہ۔

(1151) TAXATION OF COSTS

(تشعیش اخراجات) مقدمے میں فریقین کے اخراجات کو جمع کر کے جانچنا۔ (کون سے اخراجات جوڑنے کے قابل ہیں اور کون سے شامل نہیں کئے جاسکتے) جانچ پڑتاں کے بعد اصل رقم کا تعین کرنا۔

(1152) TEMPORARY RELIEF

(عارضی علاج و خلاصی) عدالت کا کوئی بھی ایسا اقدام یا حکم جو ایک فریق کو مقدمے کے فائل فیصلے تک اس کے مفاد کو عارضی تحفظ دے۔

(1153) TEMPORARY RESTRAINING ORDER (TRO)

(عارضی حکم نامہ برائے بندش) عدالت کا حکم نامہ جس کی رو سے کسی شخص کو کوئی عمل یا فعل کرنے کی کسی خاص مدت یا آئندہ عدالتی حکم نامے کی آمد تک ممانعت کی جائے۔

(1154) TENANCY

(کرایہ داری۔ پسنداری) جائیداد و ملکیت کا فائدہ جس کا ایک حصہ کرایہ دار تک پہنچ۔

(1155) TESTAMENT

(وصیت نامہ۔ عہد نامہ) ذاتی جائیداد کی تقسیم کے بارے میں وصیت نامہ۔ (دیکھئے WILL)

(1156) TESTAMENTARY CAPACITY

(وصیتی اہلیت) وصیت نامہ تحریر کرنے کی اہلیت۔ وصیت نامہ تحریر کرنے یا کرانے کیلئے ضروری ہے کہ یہ شخص کم از کم اٹھارہ سال کا ہو، جانتا ہو کہ وہ جائیداد کا مالک ہے اور وصیت نامے میں کس کیلئے یہ جائیداد چھوڑ رہا ہے۔

(1157) TESTAMENTARY DISPOSITION

(تقسیم از روئے وصیت) جائیداد کو تخفہ میں دینا۔ یہ اس وقت عمل میں نہیں آ سکتا جب تک عطا کنندہ نہ دے۔

(1158) TESTAMENTARY GUARDIAN

(وصیتی ولی) وہ شخص جو از روئے وصیت، ولی مقرر کیا گیا ہو۔ یہ شخص، ذاتی ملکیت، جائیداد اور بچے کا اس وقت تک "ولی وصیت" تصور کیا جائے جب تک کہ بچہ بالغ نہ ہو جائے۔

(1159) TESTAMENTARY TRUST

(وصیتی ٹرست) ایک ایسا ٹرست جو وصیت کے ذریعے تشکیل دیا گیا ہو۔ یہ وصیت کنندہ کی وفات سے قبل عمل میں نہیں آتا۔

(1160) TESTAMENTARY TRUSTEE

(وصیتی ٹرستی) وصیت ٹرست کے ذریعے نامزد شخص جو ٹرست کے چلانے کا ذمہ دار ہو گا۔

(1161) TESTATE

(وصیت نامہ چھوڑ کر جانے والا) متوفی جو وصیت نامہ چھوڑ کر گیا ہو یا جس نے وصیت نامہ تکمیل کر دیا ہو۔

(1162) TESTATOR

(وصی) وصیت کننده (مرد) جس نے وصیت نامہ چھوڑا ہو۔ (وصیہ برائے عورت)

(1163) TESTATRIX

(وصیہ) وصیت کننده (عورت) جس نے وصیت نامہ چھوڑا ہو۔ (وصیہ برائے مرد)

(1164) TESTIFY

(صدقیق کرنا۔ شہادت دینا) عدالتی کارروائی میں گواہ کے طور پر حلفیہ شہادت دینا۔

(1165) TESTIMONY

(صدقیق۔ شہادت) ٹرائل یا بیانِ حقیقی میں شہادت دینا۔

(1166) THEFT

(سرقة۔ چوری) مالک کی اجازت کے بغیر مال یا رقم کا ہتھیالیانا۔

(1167) THIRD-PARTY

(فریقہ ثالث) ایسا شخص، کاروبار یا حکومتی اچنہی جو قانونی کارروائی، معاهدہ سازی یا دیگر امور و معاملات میں ایک فریقہ ہو۔

(1168) THIRD-PARTY CLAIM

(دعویٰ فریقہ ثالث) مدعی علیہ کی تحریک یا اقدام جس کی پناپ فریقہ ثالث مقدمے کا حصہ بن جائے۔

(1169) THREE STRIKES LAW

(قانون سه باری) وہ قانون جس کی رو سے دو یادو سے زیادہ تکمیل جرم کے مرتكب کو لازماً اسراۓ عمر قید جمل میں کاٹنی پڑے گی۔

(1170) TIME SERVED

(معینہ وقتِ حراست) وہ معینہ زمانہ جو مجرم کو ٹرائل کے دوران سنائی گئی سزا کے برابر ہو۔

(1171) TIME WAIVER

(معینہ وقت میں کمی) جب کوئی شخص ایک حق سے دستبردار ہو جائے کہ کارروائی مقدمہ کا کچھ حصہ وقتِ معینہ میں ہی عمل میں آنا چاہئے تو اسی دستبرداری یا وقتِ معینہ کی قید سے آزادی کو ظاہم دیور کہتے ہیں۔

(1172) TITLE

(حقیقت۔ استحقاق۔ عنوان) زمین یا جائیداد کے ملکیت نامے کا ثبوت۔

(1173) TORT

(ثرث۔ فعلی بے جا) جب کوئی شخص اس وجہ سے (مالی۔ مادی یا جسمانی) نقصان اٹھائے کہ کسی دوسرے نے غفلت والا پرواہی سے اپنا فرض سرانجام نہیں دیا۔

(1174) TORTURE

(سخت تکلیف۔ تھنڈہ) معلومات اگلوانے، اقبال جرم کے حصول، جنسی ایذہ اسافی سے لطف اٹھانے یا سزا کے طور پر سخت تکلیف پہنچانا۔

(1175) TRANSACTIONAL MALPRACTICE

(معاملات میں بد عنوانی) کسی پیشے میں بد معاملگی، یا پیشہ و رانہ فرائض میں عدم مہارت۔ کسی معاملے یا کاروبار میں غیر قانونی اور بد اخلاق رو یہ۔

(1176) TRANSCRIPT

(ٹرانسکرپٹ۔ نقل) ٹرائل کے دوران کارروائی ساعت میں جو کچھ کہا گیا، اس کا ریکارڈ۔

(1177) TRANSFERRED INTENT

(متنقلی نیت) وہ کلیہ یا اصول جس کے تحت عداوت و کینہ کارخ آپک شخص سے موڑ کر (جس کے خلاف اصل میں روایہ مرتب کیا گیا تھا) دوسرے شخص کی طرف پھیر دیا جاتا ہے جو حقیقتاً غیر قانونی فعل کا شکار ہو گیا۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کی سازش کرے لیکن غلطی یا بے خبری سے کسی اور کوئی کردے تو کیا یہ جرم (اگر واقعی یہ جرم ہے) ویسا ہی تصور کیا جائے گا جیسا کہ اس شخص کو قتل کر دیا ہوتا ہے یہ یعنی قتل کرنا چاہتا تھا۔

(1178) TRANSITORY

(عبوری۔ وقتی) ایسے فعل و عمل جو کسی جگہ بھی واقع ہو سکتے ہیں۔

(1179) TRAVERSE

(انکار) عموماً قانون کی اصطلاح میں انکار کو کہتے ہیں۔ جب مدعا علیہ، مدعی کے لگائے ہوئے الزامات کا انکار کر دے۔

(1180) TRESPASSING

(مدافعت بے جا) کسی شخص، اس کے حقوق یا پر اپرٹی میں مداخلت بے جا۔

(1181) TRIAL

(ٹرائل۔ کارروائی مقدمہ) عدالتی کارروائی جس میں قانونی معاملات و حقائق کی ساعت ہوتی ہے اور ان کا فیصلہ قانونی ضابطہ کے مطابق ایک قانونی عہد یہار یا افراد جیوری کرتے ہیں۔

(1182) TRIAL DE NOVO

(اے سر نو ٹرائل) اپیلانٹ کورٹ میں از سر نو یا بار دیگر ٹرائل کا واقع ہونا، اس میں مقدمے کی کمل کارروائی ایسے عمل میں آتی ہے جیسا کہ اس سے پہلے کھی عمل میں آئی ہی نہیں۔

(1183) TRIAL COURT

(ٹرائل کورٹ۔ ابتدائی کورٹ) وہ عدالت (عموماً **SUPERIOR COURT**) جو پہلے پہل مقدمے کی ساعت پر آمادہ ہوتی ہے۔

(APPELLATE COURT) (دیکھئے)**(1184) TRIAL, COURT (BENCH)**

(کورٹ بنیخ ٹرائل) ایسا ٹرائل جس میں (جیوری کو در گذر کر کے) مقدمے کی ساعت صرف نج کے سامنے ہوتی ہے۔

(1185) TRIAL, SPEEDY

(فوری ٹرائل) امریکی آئین کی چھٹی تزمیم، ہر ملزم کیلئے موجودہ ضوابط و قواعد اور قانونی طریق ساعت کے مطابق ایک فوری ٹرائل کی ضمانت دیتی ہے۔

(1186) TRIAL STATUS/SETTING CONFERENCE

(دیکھئے) (**PRE TRIAL SENTENCE**)

(1187) TRIER OF FACT

(حقائق کا اصول) اس اصطلاح کے مطابق (پنا جیوری والے مقدمات میں) نج یا جیوری کی ذمداری قانونی فیصلہ وہی کے مقابلے میں حقائق تک پہنچنا ہے۔

(1188) TRO

(دیکھئے) (REMPERARY RESTRAINING ORDER)

(1189) TROMBETTA MOTION

(ٹرمپٹا موشن) ایک موشن یا تحریک جس میں شہادت و شواہد کے تحفظ میں ناکامی کو دبائے کی درخواست ہو۔

(1190) TRUE BILL

(تاپید جیوری) معقول ثبوت کے حصول کے بعد (جو ملزم کوڑاں پر بھینے کیلئے کافی ہیں) گرینڈ جیوری کی فرد جرم پر تایید طہری۔

(1191) TRUE FINDING

"نابغ عدالت کی زبان" "فیصلہ قصورواز" - اعلان جرم۔

(1192) TRUE TEST COPY

عدالتی دستاویز کی ایک نقل جو عدالتی کلرک کی مہر شدہ ہو، لیکن مصدقہ نہیں ہوتی۔

(1193) TRUST

(ٹرست۔ وقف) ۱۔ ایک قانونی طریق کار جس کی رو سے ایک فریق جس کا (SETTELER یا GRANTER) کسی دوسرے فریق (BENEFICIARY) کے مفاد کیلئے ایک ٹرست (وقف) تشکیل کرتا ہے جس کا بندوبست ایک تیرا فریق (ٹریسٹی) کرتا ہے۔

۲۔ ٹریفک کے معاملات میں ٹرست وہ اکاؤنٹ ہے جس میں ضمانت کی رقم امانت کے طور پر جمع کرادی جاتی ہے، تا وقت تک کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔

(1194) TRUST AGREEMENT OR DECLARATION

(معاہدہ یا اعلان وقف) وہ قانونی دستاویز جس کے ذریعے ایک وقف کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔

(1195) TRUSTEE

(ٹریسٹی۔ ایمن۔ متوالی) وہ شخص یا ادارہ جو ٹرست کی جائیدادیا قسم کا انتظام کرے (اس کو چلائے)۔

(1196) TURNCOAT WITNESS

(دوست نہاد میں کی گواہی) ایسا گواہ جس کی گواہی حمایت میں متوقع تھی، لیکن بعد ازاں وہ فریق مخالف کا گواہ بن گیا۔
جسے تم مہرباں سمجھے عدو کیسا نکل آیا

(1197) UNCONSCIONABILITY

(بے ضمیری۔ خلاف دیانت) کسی معاملے، وعدے یا عہد کی شرائط میں معقول و شفاف رویہ کا نقدان۔ جب کہ عہدناہمے کی شرائط فریق مخالف کیلئے نامناسب اور غیر جانبدارانہ رویہ رکھتی ہوں۔

(1198) UNCONSTITUTIONAL

(غیر آئینی۔ غیر دستوری) کوئی شے یا امر جو یا سی یا وفاقی آئین کے خلاف ہو۔

(1199) UNDERCOVER

(انڈر کور۔ خفیہ کام کرنے والا) وہ شخص جو ایک تفتیش میں کسی کو اپنی اصل بتائے بغیر دوسرے فریق کے بارے میں اطلاعات حاصل کرنے کی غرض سے کام کرے۔

(1200) UNDERTAKING

(ذمہ داری۔ اقرار۔ عہد) قانونی کارروائی کے دوران ایک فریق، یا اس کے وکیل کا دیا ہوا عہد۔ اسی کارروائی مtero ط ہوتی ہے جس میں تیری پارٹی یا اراکین کوثر سے کچھ مراعات مانگی جاتی ہے۔

(1201) UNDUE INFLUENCE

(ناجائز وباو) جب کوئی شخص وصیت لندنہ پر کسی شخص کا وصیت نامہ لکھوانے یا وصیت نامے میں سے نکلوانے کیلئے ناجائز وباو ڈالے۔

(1202) UNDER THE INFLUENCE

(زیر اثر) کسی کی غیر معمولی حالت جو نشے کے استعمال یا شراب کی زیادتی سے پیدا ہو۔ اسی حالت میں انسان اپنا دماغ اور جذباتی توازن کھو بیٹھتا ہے۔

(1203) UNEMPLOYMENT

(بے روزگاری) بے روزگاری۔ عدم روزگار کی حالت۔

(1204) UNILATERAL

(یک طرفہ) یک طرفہ کارروائی۔ دو یا تین افراد میں صرف ایک سے تعلقات۔ (کسی دوسرے کی وجہ سے)۔

(1205) UNJUST ENRICHMENT, DOCTRINE OF

وہ کلمیہ یا امر جس کے تحت ایک شخص کو اتنا فائدہ نہ اٹھانے دیا جائے کہ وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے۔، بلکہ اس کے فائدے کا کچھ حصہ دوسروں میں تقسیم کرنا چاہئے۔

(1206) UNLAWFUL ASSEMBLY

(خلاف قانون اجتماع) عمومی قانون میں تین یا تین سے زیادہ افراد کا غیر قانونی اجتماع۔

(1207) UNLAWFUL DETAINER

(نوں انخلا) مالکِ مکان کا کرایہ دار کو بے خلی کا نوٹس دینا۔

(1208) UNRUH CIVIL RIGHTS ACT

(شہری حقوق کی توییق کا ایکٹ) یہ قانون کیلیفورنیا کے تمام کاروباری اداروں (مشمولہ ہاؤس گ اینڈ پبلک اکاؤنڈیشن) پر لازم آتا ہے، تاکہ کوئی کسی کے ساتھ عمر، نسل، رنگ، مذہب، معدود ری حالت، قومیت، جنس و جنسی رجحان کی بنیاد پر غیر جانبدارانہ سلوک نہ کرے۔

(1209) UNSECURED

(غیر محفوظ۔ بلا ضمانت) دیوالیہ پن کی کارروائی میں (ایک کلیم مطالبة کے اندر اچھے کیلئے) وہ کلیم غیر محفوظ گردانا جاتا ہے جس کی کوئی اضافی (ماڈل) ضمانت نہ ہو۔

(1210) USURY

(ربا۔ سود مرکب) قانون کی طرف سے مقرر کردہ شرح سے (بے انتہا) زیادہ سود کا وصول کرنا۔

(1211) UTTER

ایک چیک یا ڈرافٹ کو صحیح یا کھرا سمجھنا یا اس کو صحیح اور کھرا بنا کر دوسرے کو پیش کرنا۔

(1212) VACATE

(چھوڑنا۔ خالی کرنا) کسی فعل یا امر کو ترک کرنا، چھوڑنا۔

(1213) VAGRANCY

(آوارہ گردی۔ خانہ بدوشی) نوکری، گھر یا وسائل کے بغیر، ایک جگہ سے دوسری جگہ آوارہ گردی سے زندگی برکرنے کا عمل۔

(1214) VANDALISM

(بغض یا کینہ کی نیت سے توڑا پھوڑی) ایسے افعال جو دیدہ دانستہ کینہ دوزی کے تحت کسی دوسرے یا اس کی جائیداد کو نقصان پہنچانے کی غرض سے عمل میں لائے جائیں۔

(1215) VEHICULAR HOMICIDE

(قتل بذریعہ موڑ کار) ایک موڑ گاڑی کے ناجائز استعمال کے ذریعے ارتکاب قتل۔ ایسا عمل عدم ایاغلفت والا پرواہی کی بنیاد پر عمل میں آتا ہے، لیکن اس جرم کی نوعیت ہر ریاست میں مختلف ہے۔

(1216) VENIRE

(جیوری گروپ) لاطینی زبان کے لفظ "آنا" سے مخوذ۔ لوگوں کا گروہ جو فرانچ جیوری کیلئے بلا یا جائے اور جس میں سے چند، جیوری ڈیوٹی کیلئے منتخب کئے جائیں۔

(1217) VENUE

(مقام۔ جگہ) دعویٰ یا استغاثہ درج کرنے کی عدالت۔

(1218) VERDICT

(فیصلہ۔ تجویز) جیوری یا نجح کا دیا ہوا فیصلہ۔

(1219) VERIFICATION

(تصدیق۔ جانچ) کسی (امر، واقعہ) کی صداقت کی (اکثر حلوفیہ) تحریری یا زبانی تصدیق۔

(1220) VEXATIOUS LITIGANT

(کٹ جھت۔ مقدمہ باز) وہ شخص جو شخص پر پیشان و دق کرنے کی غرض سے شکایات دائر کرے۔ جو بالکل بے سود نوعیت کی ہوں۔

(1221) VICARIOUS RESPONSIBILITY

(نیاتی ذمہ داری) کسی کی جگہ یا اس کے بعد کوئی کام سرانجام دینا۔

(1222) VICTIM

(شکار۔ مظلوم) جرم یا سماجی خلاف ورزی کا ہدف (نشانہ)۔

(1223) VICTIM IMPACT STATEMENT

(اٹر جرم کی وضاحت) سزا دہی کے موقعہ پر نتائج کی وضاحت جو سزا کے بعد مجرم یا اس کے گھروالوں پر اثر انداز ہوں گے۔

(1224) VIOLATION

(خلاف ورزی) قانون، حقوق یا فرانچ کی خلاف ورزی کرنا۔ قانون شکنی۔ فرانچ شکنی۔

(1225) VIOLATION OF PROBATION

(وقہ آزمائش میں خلاف ورزی) مدعایہ کے خلاف وقفہ آزمائش کے دوران قانون شکنی کا ایک اضافی الزام، جبکہ یہ وقفہ آزمائش ایک سابقہ جرم کی یاداش کا نتیجہ ہو۔

(1226) VISITATION

(آنا جانا۔ ملاقات) بچوں سے ملاقات کے وہ مواعیتے جو ان والدین کو متبرکے کئے جائیں، جن کے پاس بچوں کی قانونی تحویل نہ ہو۔

(1227) VOIR DIRE

(انتخاب جیوری کا عمل) متوقع افراد جیوری سے ملاقات و بات چیت، تاکہ مقدمے کی نوعیت کے مطابق صحیح لوگوں کا انتخاب کیا جاسکے۔ لاطینی زبان کے ”صحیح بولنے“ سے مأخوذه۔

(1228) VOLUNTARY ARRAIGNMENT LETTER

(رضا کارانہ اتفاق کی عرضی) مدعا علیہ کیلئے سرکاری وکیل کی جانب سے ارسال کردہ نوٹس، جس میں اس کے خلاف عائد کردہ نئے الزامات کی روشنی میں اسے ایک خاص دن، وقت اور محلے میں پیش ہونے کا حکم ہو۔ اس نوٹس کا تحریری جواب ضروری نہیں۔

(1229) VOLUNTARY MANSLAUGHTER

(غیر ارادی قتل) تکرار و غصے میں پیش آمدہ قتل۔ جیسے کسی تکرار کے دوران دو شخص اچانک لڑنا شروع کر دیں اور قتل واقع ہو جائے۔ اگرچہ دونوں طرف سے ارادہ قتل موجود نہ تھا۔

(1230) VOLUNTARY UNDERTAKINGS

(رضا کارانہ ذمہ داری کا اقرار) پابندیوں کی قید سے آزاد عمل۔ بر جستہ۔ بے ساختہ اور خود رو عمل۔

(1231) WAIVE (RIGHTS)

(حق قانون کا ترک کرنا) عمدًا، جان بوجھ کرو رہتا ہے جانتے ہوئے رضا کارانہ طور پر کسی حق سے دست بردار ہونا۔

(1232) WAIVER AND ESTOPPEL

(ترک مفاد) حقوق و مفاد کو جانتے ہوئے از خود ان سے دست بردار ہونا۔

(1233) WAIVER OF IMMUNITY

(ترک تحفظ و آزادی) ایک قانونی طریق کا جس کی رو سے ایک گواہ شہادت دینے سے قبل اپنے ہی خلاف گواہی دینے کے حق سے دست برداری اختیار کرے۔ اس پناپر اس کی شہادت، کارروائی کے آئندہ مراحل میں اس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔

(1234) WARD

(زیر ولایت، نابالغ) نابالغ شخص جو والدین کی بجائے عدالت کی زیر گرانی ہو۔

(1235) WARD OF THE COURT

(کورٹ کی زیر گرانی نابالغ) اٹھارہ سال سے کم عمر کا وہ نابالغ شخص جو تاحال عدالت کی زیر گرانی ہو اور کسی فوجداری قانون یا آرڈننس کی خلاف ورزی کرے۔

(1236) WARRANT

(حکم نامہ۔ پروانہ۔ وارنٹ) عدالتی حکم نامہ جو کسی افسر کو کچھ کرنے کا حکم دے۔

(1237) WARRANT, ARREST

(وارنٹ گرفتاری۔ حکم نامہ گرفتاری) وہ حکم نامہ جس میں کسی پولیس افسر کو کسی شخص کی گرفتاری کا حکم دیا جائے، تاکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاسکے۔

(1238) WARRANT, SEARCH

(حکم نامہ تلاشی۔ تلاشی کا وارنٹ) وہ حکم نامہ عدالت جس میں ایک خاص جگہ کی تلاشی اور ان اشیاء کو تباہی میں لینے کا حکم ہو، جو ارتکاب جرم سے

متعلقہ ہوں۔

(1239) WEAPON

(ہتھیار۔ اوزار) ایسا اوزار یا آلہ جو کسی کو بے ارادہ ضرر رسانی، قتل، وعید یا ان افعال کے ارتکاب میں استعمال ہو۔

(1240) WEAPON, CONCEALED

(پوشیدہ ہتھیار) وہ ہتھیار جو کسی کے پاس موجود ہو، لیکن عام لوگوں کی نظرؤں سے پوشیدہ ہو۔

(1241) WEAPON, DEADLY

(مہلک ہتھیار) کوئی بھی جاندار یا بے جان شے، اوزار، ترکیب یا مواد جس کا استعمال تمام انسانوں کے خیال میں جسمانی ضرر رسانی یا موت کا باعث بن سکتا ہے۔

(1242) WEIGHT OF THE EVIDENCE

(وقت و اہمیت شہادت) پیش کردہ شہادت کے مقابلے میں کسی خاص شہادت کی قائل کرنے کی صلاحیت۔

(1243) WHEELER MOTION

(تحریک تنشیخ یا درخواست منسوخی) سرکار کے متعضبانہ رویہ کی بنیاد پر جیوری کی تمام ٹیکم کی منسوخی کی درخواست۔ (جیسے سیاہ فام لوگوں یا عورتوں کو محمد اجیوری میں شامل نہ کرنے کا عمل)۔

(1244) WILL

(وصیت۔ مرضی) قانونی دستاویز جس کے تحت ایک شخص اپنی جائیداد یا رقم کی تقسیم کا نظام وضع کرے۔ وصیت میں موت سے پہلے کسی وقت بھی تبدیلی کی جاسکتی ہے اور موت واقع ہونے کے بعد اس کی شرائط پر عمل درآمد ہوتا ہے۔

(1245) WILLFUL

(با ارادہ۔ قصد ا۔ عمدہ) غفلت والا پرواہی کے مقابلے میں کسی فعل کو با ارادہ اور قصد ا کرنا۔

(1246) WITH PREJUDICE

(اڑاندازی سے) کیس خارج کرنے کے فیصلے کے تحت یہ طے پاتا ہے کہ مدعی آئندہ کیلئے اس معاملے میں اس فریق کے خلاف کوئی دوسرا دعویٰ دائر کرنے کا مجاز نہیں۔

(1247) WITHOUT PREJUDICE

(بلا اڑاندازی) کیس کا ایسا فیصلہ جس کی رو سے مقدمے کو خارج کرنے کے بعد آئندہ دعویٰ کرنے کا حق باقی رہتا ہے اور معاملے میں اس فریق کے خلاف ایک نیا مقدمہ دائر کیا جاسکتا ہے۔

(1248) WITNESS

(گواہ۔ شہادت) ایک گواہ جو عدالت میں اس لئے طلب کیا جائے کہ وہ حل斐ہ طور پر یہ بتائے کہ وہ مقدمے کے عوامل کے بارے میں کیا جاتا ہے یا اس نے کیا دیکھایا تاہے۔ (۲) کسی دستاویز پر برائے تصدیق دستخط کرنا۔

(1249) WITNESS STAND

(شہادت کا کٹھبر) عدالت کی وہ مخصوص جگہ جہاں گواہ (کھڑے یا بیٹھ کر) گواہی دیتا ہے۔

(1250) WITNESS, DEFENSE

(مخالفانہ رویہ سے عاری) وہ گواہ جو کسی صفائی کی جانب سے، گواہ دفاع کے طور پر، مدعا علیہ کے اثبات دفاع کیلئے بلا یا جائے۔

(1251) WITNESS, EXPERT

(کسی شے، موضوع یا معاملے میں تخصصی مہارت کا حامل) اپنے میدان و موضوع میں ایک خاص علم مہارت و تجربہ رکھنے والا شخص، جس کی صلاحیت و مہارت عام آدمی کی دسترس میں نہ ہو۔

(1252) WITNESS, HOSTILE

(مخالف گواہ۔ تعاوون نہ کرنے والا) وہ گواہ جو تعاوون نہ کرے۔

(1253) WITNESS, MATERIAL

ایسا گواہ جو گواہی کے معاملات میں ایسی اطلاع و علم رکھتا ہو جو کسی دوسرے شخص کے پاس نہ ہو۔

(1254) WITNESS, PROSECUTION

(فریق استغاثہ کی پیش کردہ شہادت) وہ فریق جس کے استغاثے کی وجہ سے مقدمے کا آغاز ہوا اور جس کی گواہی (ملزم کیلئے) ٹرائل میں سزا دہی کا باعث بنتی ہے۔

(1255) WOBBLER

وہ عین جرم جس کی سزا کا ذہنی یار یا سی جیل خانے کی قید ہوا جو جرم غمین کی طرح گردانا جائے۔ وہ عین جرم جس کی جواب طلبی جرم غمین یا جرم غمین کی طرح ہوا اور جس کی سزا، کا ذہنی یار یا سی جیل خانے میں کافی پڑے۔

(1256) WORK FURLOUGH

(کام سے طویل رخصت) اصلاح و تادیب کا ایک پروگرام جو قیدیوں (خاص طور پر جو جلدی بری ہونے والے ہیں) کو دن کی وقت قید خانے سے نکل کر باقاعدہ ملازمت کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت کام کرنے والے شام کو واپس جیل خانے لوٹ آتے ہیں۔

(1257) WORK PROJECT

(منصوبے کے تحت کام) ایسا پروگرام جس کے تحت ایک سزا یافتہ جیل کی سزا بھگتتے کی جائے (محنت و مشقت کا) کام کر سکتا ہے۔

(1258) WRAP AROUND SERVICES

ایسی تخصصی اور تاکیدی سوشل سروس اور صحبت سے متعلق سروز (خدمات) جو خاص طور پر ان پچے والے خاندانوں کیلئے منقص ہوں، جو نی الوقت گروپ ہومز میں رہ رہے ہوں یا گروپ ہومز میں جانے سے خائف ہوں۔ ایسی سروز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بچوں کو ان کے رضائی والدین کی تحویل سے نکال کر ان کے اصل والدین تک پہنچایا جائے۔

(1259) WRIT

(پروانہ۔ حکم نامہ) عدالتی حکم نامہ جو کسی تخصصی کام (ذمہ داری) کا حکم دے۔

(1260) WRIT OF EXECUTION

(تمیل حکم نامہ عدالت) عدالتی حکم نامہ جس میں شیرف کو اس کے نفاذ و تعمیل کا حکم ہو۔

(1261) WRIT OF MANDATE

(حکم نامہ عدالت بے افسر انتظامی) ایسی پیشہ جو عدالت، افسران انتظامی یا کسی ادارے (جس کے نام یہ جاری کیا جائے) کو تقاضات قانون کی تعمیل پر مجبور کرے۔ (خاص طور پر) جب کہ یہ ادارہ یا عدالت اس سے قبل ایسے حکم نامے کی تعمیل سے قاصر رہے ہوں۔